

برائے فوری اجراء

برامپٹن یو (BramptonU) کے قیام کی تحریک میں شامل ہو جائیں

برامپٹن، آن (6 دسمبر 2019) – برامپٹن سٹی کونسل، 'برامپٹن یو' کو متعارف کروانے کے لیے پرجوش ہے؛ یہ ایک تحریک ہے جو برامپٹن کی اپنی مکمل طور پر تسلیم شدہ یونیورسٹی کے قیام کے لیے کام کرے گی۔ موجودہ شراکت داروں، اونٹیریو اور دنیا کی دیگر یونیورسٹیوں کے شاندار تجربات کی بنیاد پر قائم کرنے کے لیے سٹی اپنے رہائشیوں اور کاروباری اداروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک مکمل یونیورسٹی کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔

اس ضمن میں سٹی خودمختار کنسلٹنٹس کی خدمات سے بھی استفادہ حاصل کر رہا ہے اور 'برامپٹن یو' کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے عوام اور دیگر متعلقہ فریقین کی رائے نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ پہلے مرحلے میں، سٹی آف برامپٹن درج ذیل ذرائع سے عوامی رائے حاصل کرنے کا خواہشمند ہے:

ٹیلیفون سروے، آغاز 6 دسمبر

- ایک بے ترتیب طریقے سے 1,000 رہائشیوں کو کال کی جائے گی۔

ٹیلی ٹاؤن ہال، 13 دسمبر، رات 7 - 8 بجے تک

- ایک بے ترتیب طریقے سے 100,000 رہائشیوں کو کال کی جائے گی۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں ضرور کال کی جائے، وہ براہ کرم www.BramptonU.ca پر سائن اپ کریں۔
- میئر پیٹرک براؤن، کونسل کے ممبران اور 'برامپٹن یو' پروجیکٹ کے قائدین کال پر موجود ہوں گے اور رہائشیوں کی فیڈبیک خود حاصل کریں گے اور ان کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔

اس پرجوش تحریک کے ایک حصے کے طور پر، سٹی آف برامپٹن درج ذیل اقدامات اٹھا رہا ہے:

- برامپٹن یونیورسٹی اور طلباء کی ممکنہ رہائشوں کے لیے ایبٹن اور مسالے سے عمارتیں بنانے اور انہیں بحال رکھنے کے لیے شراکت داروں اور طریقہ کار کے بارے میں چھان بین کرنا
- 'برامپٹن یو' کے قیام کے لیے صوبے کو قائل کرنے کی کوشش کرنا
- مختلف اقسام کے اداروں، تنظیموں اور شہریوں کی رائے لینا تاکہ 'برامپٹن یو' کے لیے ایسے پروگرام اور کورسز مرتب کیے جائیں جو طلباء اور مستقبل کی معاشی ضروریات کو پورا کر سکیں

لنکس

- ['برامپٹن یو' کی ویب سائٹ](#)
- ['برامپٹن یو' اکثر پوچھے جانے والے سوالات](#)
- [میڈیا ریلیز: بعد از ثانوی تعلیم کے حوالے سے برامپٹن اضافی آیشنز کی جھان بین کر رہا ہے](#)

کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca